

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 2016. 10.05 مضمون: سوشل سائنس پریچہ: دوسرا گروپ

جزل ہدایات برائے مارکنگ Key نیوکیم اولڈ کییم (مارکنگ کییم)

انٹرنیٹ فرسٹ ایڈیٹوریل سالانہ ضمنی امتحان 2016ء

Instructions for checking Home Eco.
Papers.

- 1) Try to avoid marking in fractions. But if not possible then try to make it round figure in the next few questions.
- 2) Make a Uniform policy for marking by setting the sects of answers. So that no injustice be ~~to~~ done to the students:

Shumam
10.05.16

Amal dry
10.05.16

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION,

MULTAN

OBJECTIVE KEY FOR INTER (PART I / II) Annual Examination, 2016.

Name of Subject Out Lines of Home Economics Session _____

Q. Nos.	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8211			
1.	D			
2.	A			
3.	B			
4.	A			
5.	C			
6.	C			
7.	B			
8.	A			
9.	B			
10.	ABCD			
11.	A			
12.	D			
13.	C			
14.	C			
15.	C			
16.	C			
17.	A			
18.				
19.				
20.				

سرٹیفیکیٹ بابت تصحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون: سینئر الٹیمٹس پرچہ: دوسرا گروپ: سکیم اتر سالانہ امتحان 2016ء کا سوالیہ پرچہ انٹائیپ / معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر مہتمم چیک کر لیا ہے یہ پرچہ سلیبس کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور سلیبس (Syllabus) کے مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ بھی درست بنائی گئی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔

PREPARED & CHECKED BY

Sr.No	Name	Designation	Institution	Mobile No.	Signature.
1.	Anila Chaudhry	Principal	C. of H. Eco Multan.	03006332156	Anil Chaudhry
2.	Poonam Khuram	Lecturer	C. H. E. Multan	03336054971	Khuram

Paper Code

2016 (A)

Number: 8211

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پے پیج - دوہرا

وقت = 20 منٹ

TIME ALLOWED: 20 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 17

MAXIMUM MARKS: 17

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve question on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

- (1) Carbohydrates found in milk are called:-
(A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فروکٹوز (C) Maltose مالٹوز (D) Lactose لیکٹوز
- (2) Types of Vitamin are:-
(A) Two دو (B) Four چار (C) Six چھ (D) Eight آٹھ
- (3) Cellulose is found in:-
(A) Animals جانوروں میں (B) Plants پودوں میں (C) Soil مٹی میں (D) Human body انسانی جسم میں
- (4) Unsaturated Fats are changed into Saturated Fats by adding:-
(A) Hyrogen ہائیڈروجن (B) Nitrogen نائٹروجن (C) Carbon کاربن (D) Oxygen آکسیجن
- (5) The stored form of Carbohydrates in human body is called:-
(A) Glucose گلوکوز (B) Fructose فروکٹوز (C) Glycogen گلیکوجن (D) Dextrine ڈیکسٹریں
- (6) One gram of Fats provides our body with the number of Calories:-
(A) 4 (B) 8 (C) 9 (D) 12
- (7) Vitamin A found in vegetable sources is called:-
(A) Protein پروٹین (B) Carotene کیروٹین (C) Systine سسٹین (D) Tyrosine ٹائروسین
- (8) The vitamin that plays an important role in vision accuracy and adjustment:-
(A) A (B) D (C) E (D) K
- (9) An important Fatty Acid is:-
(A) Ascorbic acid اسکوربک ایسڈ (B) Linolinic acid لینولینک ایسڈ (C) Hydrochloric acid ہائیڈروکلورک ایسڈ (D) Palmitic acid پالمٹک ایسڈ
- (10) Vitamin _____ is responsible for blood clotting.
(A) A (B) B (C) C (D) D
- (11) While cutting a correct Bias, its angle should be:-
(A) 45° (B) 90° (C) 120° (D) 180°
- (12) Twill weave has a characteristic to make a pattern on the Fabric as:-
(A) Flowery پھولدار (B) Vertical عمودی (C) Horizontal افقی (D) Diagonal ڈیگنل
- (13) Longest Fibre is of:-
(A) Cotton کاتن (B) Linen لینن (C) Silk ریشم (D) Wool اون
- (14) Nylon is such a Fibre which is:-
(A) Natural قدرتی (B) Man made انسانی تیار کیا (C) Chemical کیمیائی (D) Mixed ملا
- (15) Short, coarse and layer fibre is of:-
(A) Cotton کاتن (B) Silk ریشم (C) Wool اون (D) Rayon رے آن
- (16) If the warp and weft make the exact angle of 90° it is called:-
(A) Bias ڈیجھان (B) Selvedge سلیج (C) Grain line گرین لائن (D) Off grain line آف گرین لائن
- (17) The finishing process in which Fabric is passed through a steamed roller is called:-
(A) Calendring کیلنڈرنگ (B) Bleaching ڈیگھ (C) Mercerization مرسرائزیشن (D) Napping نپنگ

4. Attempt any six parts.

$12 = 2 \times 6$

س نمبر 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Prepare the list of items of a Sewing Box.

(i) سلائی کے ڈبے کی اشیا کی لسٹ تیار کیجیے۔

(ii) What is meant by Warp and Weft?

(ii) تانے اور بانے سے کیا مراد ہے؟

(iii) Which are the four essential steps prior to cutting of fabric?

(iii) کپڑے کی کٹائی سے پہلے کون سے چار اہم ضروری ہیں؟

(iv) Write down the characteristics of Silk fibre Fabric.

(iv) ریشم کے ریشے سے بنے ہوئے کپڑے کی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(v) Write any one method of identification of Fibres.

(v) ریشوں کی شناخت کا کوئی سا ایک طریقہ تحریر کیجیے۔

(vi) Write a note on Mercerization.

(vi) مرسرائزیشن پر نوٹ لکھیے۔

(vii) Write the names of steps from Cotton to thread formation.

(vii) کپاس سے سوت بنانے کے مراحل کے نام تحریر کیجیے۔

(viii) Write any four characteristics of chemical fibres.

(viii) کیمیائی ریشوں کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

(ix) What is meant by making a fabric crease resistant?

(ix) ایک کپڑے کو مانع سلوٹ بنانے سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

$24 = 8 \times 3$

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

$2 + 3 + 3$

5- لمبیات (پروٹین) کی ساخت، افعال اور کمی کے اثرات تحریر کیجیے۔

5. Write down the structure, functions and deficiency effects of Proteins.

$3 + 5$

6- حیاتیات کے عمومی افعال تحریر کیجیے۔ حیاتیات ج کا کردار واضح کیجیے۔

6. Write down the general functions of Vitamins. Emphasize the role of Vitamin C.

$4 + 4$

7- ہمارے جسم میں فولاد کی اہمیت واضح کیجیے اور اس کی کمی کے اثرات تحریر کیجیے۔

7. What is the importance of Iron in our body? Write down its deficiency effects.

$2 + 3 + 3$

8- ریشے کی اقسام کون سی ہیں؟ کوئی سی دو قدرتی ریشوں کی وضاحت کیجیے۔

8. Which are the types of Fibres? Explain any two Natural Fibres.

9- لباس کی منصوبہ بندی پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کیجیے۔ 8

SECTION-III حصہ سوم

10. NOTE: - Attempt any three parts.

$15 = 5 \times 3$

10- (پریکٹیکل حصہ) کوئی سے تین اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

(A) Which points will be considered while planning the menu for a family?

(A) ایک خاندان کی فہرست طعام ترتیب دینے کے لیے کن نقاط کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟

(B) Write down the sewing machine troubles and their remedies.

(B) سلائی مشین کی خرابیاں اور انہیں دور کرنے کا طریقہ لکھیے۔

(C) What do you know about personal grooming? How can you maintain it?

(C) ذاتی زیبائش کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ آپ اس کو کس طرح برقرار رکھیں گی؟

(D) Write down the procedure of running the sewing machine skilfully.

(D) سلائی مشین پر مہارت حاصل کرنے کا طریقہ لکھیے۔

(E) How can you judge the freshness of fruits and vegetables.

(E) پھلوں اور سبزیوں کی تازگی آپ کس طرح جان سکتے ہیں؟

INTERMEDIATE PART-II (12th CLASS)

OUTLINES OF HOME ECONOMICS PAPER-II

آؤٹ لائنز آف ہوم اکنامکس پرچہ - دوسرا

TIME ALLOWED: 3.10 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 3.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 83

کل نمبر = 83

NOTE: - Write same question number and

نوٹ۔ جوابی کا پی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔

its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 2۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write down the functions of Food. (i) غذا کے مقاصد تحریر کیجیے۔
- (ii) Write a short note on Balanced Diet. (ii) متوازن غذا پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔
- (iii) Which are the factors that affect upon the selection of Balanced Diet? (iii) متوازن غذا کے چناؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل تحریر کیجیے۔
- (iv) Make a chart of three basic food groups. (iv) غذا کے تین بنیادی گروہوں کا چارٹ بنائیے۔
- (v) Which are the factors that hinder in the achievement of Balanced Diet? (v) متوازن غذا کے حصول میں مائع عوامل کون سے ہیں؟
- (vi) Write about the nutritional requirements during infancy. (vi) شیر خوارگی کی غذائی ضروریات کے بارے میں لکھیے۔
- (vii) Write down the functions of Carbohydrates in the body. (vii) کاربوہائیڈریٹس کے جسم میں کام تحریر کیجیے۔
- (viii) What do you know about Retinol and Carotene? (viii) ریتینول اور کیروٹین کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟
- (ix) Write down the important deficiency effects of Vitamin A in our body. (ix) ہمارے جسم میں وٹامن اے کی کمی کے اہم اثرات تحریر کیجیے۔
- (x) Narrate four functions of Thiamine (Vit B 1). (x) تھامین (وٹامن بی 1) کے چار افعال بیان کیجیے۔
- (xi) Write a note on Pellagra. (xi) پیلاگرا پر نوٹ تحریر کیجیے۔
- (xii) Classify different activities/work according to the consumption of Energy. (xii) توانائی کے استعمال کے لحاظ سے مختلف کام و مشاغل کی درجہ بندی کیجیے۔

3. Attempt any eight parts.

16 = 2 x 8

سوال نمبر 3۔ کوئی سے آٹھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write any four functions of Calcium in human body. (i) انسانی جسم میں کیلیم کے کوئی سے چار افعال تحریر کیجیے۔
- (ii) Write a short note on Goiter. (ii) گلگڑ کی بیماری پر مختصر نوٹ لکھیے۔
- (iii) Give some suggestions for getting cheap and Balanced Diet. (iii) متوازن اور سستی خوراک حاصل کرنے کے لیے چند تجاویز پیش کیجیے۔
- (iv) Which are the aims for Cooking Food? (iv) غذا کو پکانے کے مقاصد کون کون سے ہیں؟
- (v) How can you produce variety in Foods? (v) کھانوں میں تنوع (ورائٹی) کس طرح پیدا کی جاسکتی ہے؟
- (vi) Write down some general principles for cooking food. (vi) غذا کو پکانے کے چند عمومی اصول تحریر کیجیے۔
- (vii) Write a short note on Buffet Food Service. (vii) بوفے طرز پر کھانا پیش کرنے پر مختصر نوٹ تحریر کیجیے۔
- (viii) What is meant by Rickets? (viii) ریکٹس سے کیا مراد ہے؟
- (ix) What is the importance of Fats in our Diet? (ix) ہماری غذا میں چکنائیوں کی کیا اہمیت ہے؟
- (x) Write down the principles of buying staple foods. (x) اناجوں کی خریداری کے اصول تحریر کیجیے۔
- (xi) Prepare a list of Carbohydrate rich foods. (xi) کاربوہائیڈریٹس کی زیادہ مقدار والی غذاؤں کی لسٹ بنائیے۔
- (xii) Write down some important functions of Mineral elements. (xii) معدنی نمکیات کے کچھ اہم افعال تحریر کیجیے۔

(ورق الٹئے)